

A۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت		
پروڈکٹ کا نام	HBL روشن اپنی کار	
درکار گاڑی	نئی	
درکار فنانسنگ	_____ روپے	
فنانسنگ کی مدت	_____ ماہ	
مارک اپ کی قسم	فلکسڈ	
B۔ فنانسنگ کی رقم کا تخمینہ		
مارک اپ ریٹ (سالانہ)	x.x%	
* ریگولر چارجز: 12,000 روپے + FED (بشمول) * دوبارہ کارلون لینے والے کسٹمرز: 6,000 روپے + FED (بشمول)۔ 06 ماہ بعد دوبارہ اپلائی کرنے والے انفرادی افراد یا ایک فیملی کی میمورٹی کے بعد یا سٹیلمنٹ کے کم از کم 06 ماہ بعد) بشمول: - دستاویزات کے چارجز - تصدیق - اسٹامپ ڈیوٹی - کریڈٹ رپورٹ: اصل 150 روپے تک - گاڑی کا جائزہ لینے کے چارجز: جو بھی اصل چارجز ہونگے وہ کسٹمر ادا کرے گا * تازہ ترین SOBC کے مطابق۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں، براہ مہربانی تازہ ترین SOBC کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں۔		
ماہانہ قابل ادائیگی قسط کتنی ہوگی؟ (صرف پہلے سال کے لیے برابر ماہانہ قسط (EMI))	_____ روپے * = فنانسنگ امانٹ + پروٹ (APR) فنانسنگ کی مدت / فنانسنگ کی مدت (مہینوں میں)	ٹوٹل ماہانہ قابل ادائیگی قسط کتنی ہوگی؟ (صرف پہلے سال کے لیے ٹوٹل ماہانہ ادائیگی (TMP))
_____ روپے * = EMI + ماہانہ انشورنس		
آپ فنانسنگ کے لیے کتنی رقم کی ادائیگی کریں گے؟	(انشورنس کے ساتھ ماہانہ کرانے کا مجموعہ) روپے _____ X (فنانسنگ کی مدت) _____ مہینے = _____ روپے	
C۔ قبل از وقت ادائیگی اور جزی ادائیگی		
کیا آپ لون / فنانس کی رقم میمورٹی سے قبل ادا کر سکتے ہیں؟	ہاں	
آپ لون / فنانس کی رقم میمورٹی سے قبل اس طرح ادا کر سکتے ہیں؟	کسٹمر HBL کانٹیکٹ سینٹر پر کال کرے گا اور کارلون کی سہولت کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔	
کیا آپ کولون / فنانس کی قبل از وقت سہولت پر کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل سہولت کی صورت میں واجب الادا رقم کا 10 فیصد + FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد سہولت کی صورت میں واجب الادا رقم کا 5 فیصد + FED	
کیا آپ ویٹنگی ادائیگی / لون کی جزی ادائیگی / فنانس کے لیے کوئی اضافی رقم / چارجز کی ادائیگی کرنا ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل جزی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 10 فیصد + FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد جزی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 5 فیصد + FED	
D۔ عدم ادائیگی / ادائیگی میں تاخیر سے متعلق معلومات:		
اگر آپ اپنی ادائیگی کی مدد داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اقدام اٹھائے جاسکتے ہیں؟	بینک گاڑی کو واپس قبضے میں لے سکتا ہے اور / یا کسٹمر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) دوسرا تک کی منتی / واجب الادا ادائیگی کی معلومات (جس میں بشمول گریڈ ونٹین، زائد المیعا دوائیگیاں، دوسرے ادائیگی، رائٹ آف یا مالک۔ اس کی معافی وغیرہ شامل ہیں)۔ کو CIB-e میں شامل کرے گا۔ لہذا، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی قسطوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ آپ CIB-e پر کسی بھی قسم کی منفی معلومات کی اطلاع یا عکاسی ہونے سے بچ سکیں۔	
آپ قبضے میں لی گئی گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟	اگر کسٹمر بھتیجا یا ادا کرتا ہے: اسے گاڑی واپس کر دی جائے گی، تاہم اگر کسٹمر رقم ادا کرنے سے قاصر ہے، تو بینک پورس کے قبضے کا انتخاب کرے گا۔	
وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر آپ پر کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا؟	عدم ادائیگی کے چارجز	تاخیر سے ادائیگی کے چارجز کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ
	تاخیر سے ادائیگی کے چارجز (LPC) - / 1,500 روپے + FED (ماہانہ)	شرح کا اطلاق فلکسڈ چارجز
	گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارجز - / 50,000 روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)	
E۔ دیگر مادی معلومات		
آپ کے پاس انشورنس کے کون کون سے آپشن موجود ہیں؟	انشورنس کروانا لازمی ہے، بینک کے پینل انشوررز میں شامل ہیں آدم جی، JCI، EIU اور TPL (یا کوئی دوسرا ایسے وقتاً فوقتاً HBL کی جانب سے منظور کیا گیا ہو)، اور جامع انشورنس کا احاطہ کیا گیا ہے (تفصیل انشورنس سرٹیفکیٹ پر درج ہے)۔	
ناہندہ (ناہندگان) کے انتقال کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟	متوفی کے خسر / فرس کی ادائیگی کو قانونی وراثی کی جانب سے تسلیم کیا جائے گا اور ریز کے پینتہ ہونے تک اسے جاری رکھا جائے گا۔	
ضامن کے فراہم کیا ہیں؟	N/A	
آپ کو کون کون سی دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟	HBL روشن اپنی کار کی درخواست، خط برائے تنظیم، بشڈول آف چارجز (SOBC)، HBL روشن اپنی کار فیملی لیٹر، ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی، بینک اور ڈیلیوری میں تاخیر سے متعلق تنظیم، نان فائلرز کے لیے ٹیکس کا حساب کتاب، پروڈکٹ کی معلومات / خصوصیات اور کسٹمر کا اقرار نامہ۔	
کیا آپ اپنی گاڑی / لون / فنانس کی مدت کے دوران کسی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتے ہیں؟	جی ہاں، آپ HBL سے NOC حاصل کرنے کے بعد کسی تیسرے فریق کو اپنی گاڑی فروخت کر سکتے ہیں جو صرف بقایا رقم کی ادائیگی اور بینک کے تمام واجب الادا ادا جات کی ادائیگی کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔	
بکنگ کے بعد گاڑی کی قیمت میں تبدیلی کا رجسٹر	نئی گاڑی کی قیمت میں کمی: قرض کو جزی طور پر اپاڈ جسٹ کیا جائے گا جس کے نتیجے میں HBL کو ڈیلر شپ سے فنانس زموصل ہونے کے بعد EMI میں کمی آئے گی۔ نئی گاڑی کی قیمت میں اضافہ: بینک پور کی طرف سے قیمت میں اضافے کی صورت میں یا حکومت کی طرف سے ٹیکسوں میں اضافہ یا کسی اور وجہ سے، کسٹمر 10 کاروباری دنوں کے اندر ڈیلر شپ کو براہ راست امتیازی رقم ادا کرنے اور اس کے ثبوت بینک کے ساتھ شیڈ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اگر کسٹمر مقررہ مدت کے اندر امتیازی رقم ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو بینک، بینک پالیسی کے مطابق قرض کی منظوری سمیت کوئی بھی مناسب کارروائی کرنے کا حقدار ہوگا۔ مزید برآں، ڈیلر شپ پر گاڑی کی آمد کے وقت کسٹمر کو پوری مدت کے لیے انشورنس کی امتیازی رقم اپنے ری ہیمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہوگی۔	
آپ معاوضہ و مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟	کسٹمر HBL کانٹیکٹ سینٹر 425-555-111 پر کال ملا سکتے ہیں یا مقامی HBL برانچ تشریف لا سکتے ہیں۔	

کسٹمرز کے دستخط اور تاریخ

مجاز بینکر کے دستخط، اسٹامپ اور تاریخ

میں / ہم بذریعہ ذیل اقرار و توثیق کرتا ہوں / کرتے ہیں HBL روشن اپنی کار کے زیر ماتحت Key Fact Sheet کی وصولی (جسے بعد میں "KFS" کہا جاتا ہے): (b) KFS کو بغور پڑھا اور سمجھا گیا: (c) کہ KFS پر میری / ہماری جانب سے HBL روشن اپنی کار کے تحت شرائط و ضوابط کی قبولیت کے بعد دستخط کئے گئے ہیں۔

بینک چارجز بشڈول آف بینک چارجز کے مطابق ہوتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً زیم کی جاتی ہیں۔